

Quranic Arabic Grammar

قرآنک عربک گرامر

Lesson - 10

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

📞 +91 92906 21633 (whatsapp only)

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

الدرس العاشر

سبق

LESSON-10

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes
III - فعل کی قسمیں

III - Fel ki qisme - III - Types of verb

امر

Amr - Imperitive Verb

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Command	Amr	امر
<p>تعریف: امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔</p> <p>Tareef: Amr wo fel hai jis ke zariye kisi kaam ke karne ka hukum diya jaaye.</p> <p>Definition: Imperitive word is a word which is used to indicate command/order.</p>		<p>إفعلَ</p> <p>If-al</p> <p>kar</p> <p>do it</p>

امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ

Amr e Hazir Maroof banane ka qaida

Rules for making direct 2nd person command

مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں (آ، ت، ی، ن) میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے:

Muzaar'e maazi se banta hai. Uske banana ka tariqa ye hai ke maazi ke shuru mai (ا، ن، ی، ت) mai se ek huruf iss tarah lagay jata hai:

Verb (Muzaare) is made from its past (Maazi) by adding one of the four letters before it (ا، ن، ی، ت)

تین حرفی ماضی کے مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر دیں اور شروع میں ہمزہ وصل لگادیں۔

Teen harfi maazi ke muzaare se alaamat muzaare ko hazaf kar de aur shuroo me Hamza wasl laga de. In a three letter past tense, when it becomes present tense then to make an imperative verb we remove the sign of present tense and we add hamzatul wasl

اگر مضارع کا "عین کلمہ" مضموم ہے تو ہمزہ وصل بھی مضموم ہوگا اور اگر "عین کلمہ" مکسور یا مفتوح ہے تو ہمزہ وصل مکسور ہوگا۔

Agar muzarre ka "aen kalmia" mazmoom hai to Hamza vasal bhi mazmoom hoga" aur agar aen kalima maskoor ya maftoo hai to Hamza va sal maskoor hoga.

If the ayn kalima of the present tense verb has pesh then the hamzatul wasl will also have pesh. Moreover if the Ayn kalima of the present tense is either zabar or zer then hamzatul wasl will get only zer and never zabar.

آخری حرف (لام کلمہ) کو جزم ملے گا۔

مثلاً:- نَتَّصِرُ نئے انصر (مدد کر) مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے اس لئے ہمزة وصل مضموم آیا ہے۔

تَذْهَبُ نئے اذھب (جا) مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے اس لئے ہمزة وصل مکسور آیا ہے۔

تَجَلِّسُ سے اِجْلِسْ (بیٹھ) مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے اس لئے ہمزة وصل مکسور آیا ہے۔

3. Aakhri harf (laam kalmia) ko jazam milega.

Masalan: (نَصْر - نَصْرُ) muzarre ka ain kalmia mazmoom hai isliye Hamza va sal mazmoom aaya hai.

(تَذْهَبَ - اذْهَبَ) muzarre ka ain kalmia maftooh hai is liye Hamza va sal maskoor aaya hai.

(تَجَلِّسُ - اِجْلِسْ) muzarre ka ain kalmia maskoor hai is liye Hamza va sal maksoor hai

Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is paish then hamza will also be paish. Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is zabar then hamza will also be zaire. Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is zaire then hamza will also be zaire.

اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو ہمزة وصل کی ضرورت نہیں۔ جیسے تعد سے عد (وعدہ کر) ہوگا۔

Agar alamat muzarre ke baad vala huruf saakin na ho to Hamza wasal ki zaroorat nahi.

Jaise (تعد - عد) hoga.

If the letter is not saakin after muzare letters then hamza wasal is not required.

نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے: تَدْعُوْ سے اُدْعُ (بلا)۔

Noon airaabi saakhit ho jayega. Noon zameer apni haalat par rahega. Agar aakhir me harf illat ho to vo saakhit ho jayega. Jaise (تَدْعُوْ - اُدْعُ).

Noon will be deleted. Noon zameer will be in original position. If there is haraf e illat letters in the end then illat letters will be deleted.

امر غائب و متکلم بنانے کا قاعدہ

Amr Ghayab va mutakallim banane ka qaida

Rule of making the command tense for 3rd person and 1st person

مضارع معروف کے صیغوں پر "لام امر" (لام مکسور) بڑھادیا جائے۔
مثلاً: يَذْهَبُ سَ لِيَذْهَبَ (اس کو جانا چاہیے / چاہیے کہ وہ جائے) - يَنْصُرُ سَ لِيَنْصُرَ (اس کو مدد کرنا چاہیے / چاہیے کہ وہ مدد کرے)

Muzaare maroof ke seghon par "laam amr" (laam maksoor) bada diya jaye.

Masalan: (يَذْهَبُ - لِيَذْهَبُ) (يَنْصُرُ - لِيَنْصُرُ)

Add Lam on command laam of Zer - Example : (يَذْهَبُ - لِيَذْهَبُ) (يَنْصُرُ - لِيَنْصُرُ)

مضارع پر لام امر آنے سے جو صیغے واحد کے ہیں ان کو جزم مل جاتا ہے۔
Muzaare par laam amr aane se jo seeghe vahid ke hai unko jazam mil jata hai.

If Laam(command) comes on present, singular tense will come with jazam

نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے: يَدْعُوْنَ لِيَدْعُ

Noon airabi saakhit ho jayega. Noon zameer apni haalat par rahega. Agar aakhir me harf illat ho to vo saakhit ho jayega.

Noon will decline. Noon of zameer remains and harfe illat will be deleted.

Arshad Basheer Madani Notes

Tasreef Fel Amar Conjugation of Command تصريف فعل امر			
Haazir Muzakkar 2nd Person Male حاضر مذکر			
You do it	Tum karo	تم کرو	اَفْعَلْ
You both do it	Tum dono karo	تم دونوں کرو	اَفْعَلَا
You all do it	Tum sab karo	تم سب کرو	اَفْعَلُوا
Haazir Muannas 2nd Person female حاضر مؤنث			
You do it	Tum karo	تم کرو	اَفْعَلِيْ
You both do it	Tum dono karo	تم دونوں کرو	اَفْعَلَا
You all do it	Tum sab karo	تم سب کرو	اَفْعَلْنَ

Negative Command	Nahi	نہی
<p>تعريف: نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔</p> <p>Tareef: Nahi wo fel hai jis ke zariye kisi kaam ken a karne ka hokum diya jaye.</p> <p>Definition: A verb through which a command of not doing an action is given.</p>		<p>لا تَفْعَلْ</p> <p>La-Taf-al</p> <p>Mat kar</p> <p>don't do it</p>

بنانے کا طریقہ: مضارع کے شروع میں لائے نہی لگا دینے سے نہی بن جاتا ہے۔
 لائے نہی فعل مضارع میں وہی عمل کرتا ہے جو لم کرے، یعنی پانچ صیغوں کو جزم کی علامت سکون دیتا ہے اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے۔ سات صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جبکہ دو صیغوں: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب میں کچھ عمل نہیں کرتا۔

Nahi banaane ka tareeqa: Muzare' ke shuru me laa-e-nahi laga dene se nahi ban jaata hai. laa-e-nahi fel-e-muzare' me wahi amal karta hai jo "Lam" karta hai, yani paanch segho ko jazam ki alamat-e-sukoon deta hai aur agar aakhir me harf-e-illat ho to use gira deta hai. saat segho se noon-e-e'raabi gira deta hai, jabke do segho: jama muannas ghaeb aur jama muannas mukhatab me kuch amal nahi karta.

How to make command of Negation:

The command of Negation is made by prefixing the Laam of Negation to a preset tense verb. The effect of Laam of Negation is similar to the effect of Laam on a present tense verb i.e, it gives sukoon on 5 forms and the weak letter is dropped if it is present at the end of the verb. In 7 forms the Declinable Noon is dropped, but it has no effect on 2 forms i.e, plural of 3rd person feminine and plural of 2nd person feminine.

Tasreef fel Nahi | Conjugation of Negation | تصريف فعل نہی

Haazir Muzakkar 2nd Person Male حاضر مذکر			
You don't do it	Tum Mat karo	تم مت کرو	لَا تَفْعَلْ
You both don't do it	Tum dono Mat karo	تم دونوں مت کرو	لَا تَفْعَلَا
You all don't do it	Tum sab Mat karo	تم سب مت کرو	لَا تَفْعَلُوا
Haazir Muannas 2nd Person female حاضر مؤنث			
You don't do it	Tum Mat karo	تم مت کرو	لَا تَفْعَلِيْ
You both don't do it	Tum dono Mat karo	تم دونوں مت کرو	لَا تَفْعَلَا
You all don't do it	Tum sab Mat karo	تم سب مت کرو	لَا تَفْعَلْنَ

Vocabulary



PORTIONS OF DAY AND TIME	دن اور وقت کی تقسیم	Aqsaamul yaumi waz zaman	أقسامُ الْيَوْمِ وَالزَّمَنِ
Early	جلدی	Mubakkir	مُبَكَّرٌ
Late	تاخیر	Muta'akkhir	مُتَأَخِّرٌ
Day time	دن میں	Fin nahaar	فِي النَّهَارِ
At night	رات میں	Fil lail	فِي اللَّيْلِ
Today	اس دن	Haazal yaum	هَذَا الْيَوْمُ
Tonight	اس رات	Haazihil lailah	هَذِهِ اللَّيْلَةُ
All day	دن بھر	Kullul yaum	كُلُّ الْيَوْمِ
All night	رات بھر	Kullul lailah	كُلُّ اللَّيْلِ
Tomorrow	کل	Ghadan	غَدًا
Yesterday Night	کل کی رات	Albaarihah	الْبَارِحَةَ
The day after	آنے والا پرسوں	Ba'da ghad	بَعْدَ غَدٍ
The day before	گزرا ہوا پرسوں	Qablal baarihah	قَبْلَ الْبَارِحَةِ

Last night	گزری ہوئی رات	Al-lailatul maaziyah	الَلَّيْلَةُ الْمَاضِيَّةُ
Coming night	آنے والی رات	Al-lailatul qaadimah	الَلَّيْلَةُ الْقَادِمَةُ
Everyday	ہر دن	Kullu yaum	كُلُّ يَوْمٍ
Everynight	ہر رات	Kullu lailah	كُلُّ لَيْلَةٍ
Dawn	فجر	Alfajr	الْفَجْرُ
Morning	صبح	As-sabaah	الصَّبَاحُ
Before noon	ظہر سے پہلے	Qablaz zuhr	قَبْلَ الظُّهْرِ
Noon	ظہر	Az-zuhr	الظُّهْرُ
Afternoon	ظہر کے بعد	Ba'daz zuhr	بَعْدَ الظُّهْرِ
Sunset	غروب آفتاب	Ghoorubush shams	غُرُوبُ الشَّمْسِ
Evening	شام	Al-masaa'	الْمَسَاءُ
Night	رات	Al-lail	الَلَّيْلُ
Midnight	آدھی رات	Muntasaful lail	مُنْتَصَفُ اللَّيْلِ
In the morning	صبح میں	Fis-sabaah	فِي الصَّبَاحِ
Early-morning	صبح سویرے	As-sabaahul baakir	الصَّبَاحُ الْبَاكِرُ
In the evening	شام میں	Fil masaa'	فِي الْمَسَاءِ
In a week	ہفتہ میں	Fi usboo'	فِي أُسْبُوعٍ
Last week	گزرا ہوا ہفتہ	Al-usboo'ul maazi	الْأُسْبُوعُ الْمَاضِي
Next week	آنے والا ہفتہ	Al-usboo'ul qaadim	الْأُسْبُوعُ الْقَادِمُ
In a month	مہینہ میں	Fi shahr	فِي شَهْرٍ
Last month	گزرا ہوا مہینہ	Ash-shahrul maazi	الشَّهْرُ الْمَاضِي
Next month	آنے والا مہینہ	Ash-shahrut taali	الشَّهْرُ التَّالِي
In a year	سال میں	Fi sanah	فِي سَنَةٍ
Last year	گزرا ہوا سال	As-sanatul maaziyah	السَّنَةُ الْمَاضِيَّةُ
Next year	آنے والا سال	As-sanatul qaadimah	السَّنَةُ الْقَادِمَةُ
Century	صدی	Qarn	قَرْنٌ
Era / period	دور	Asr	عَصْرٌ
Millennium	ایک ہزار سال	Alf aam	أَلْفُ عَامٍ



THE DAYS AND TIMES	دن اور اوقات	Al-ayyaam wal-auqaat	الْأَيَّامُ وَالْأَوْقَاتُ
Sunday	اتوار	Yaumul-Ahad	يَوْمُ الْأَحَدِ
Monday	پير	Yaumul-Isnain	يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ
Tuesday	منگل	Yaumus-Sulaasaa'	يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ
Wednesday	چار شنبہ	Yaumul-Arbi'aa	يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ
Thursday	جمعرات	Yaumul-Khamees	يَوْمُ الْخَمِيسِ
Friday	جمعہ	Yaumul-Jumu'ah	يَوْمُ الْجُمُعَةِ
Saturday	ہفتہ	Yaumus-Sabt	يَوْمُ السَّبْتِ
Today	آج	Al-yaum	الْيَوْمِ
Yesterday	کل	Al-ams	الْأَمْسِ
The day before yesterday	گزرا ہوا پر سوں	Qablal ams	قَبْلَ الْأَمْسِ
Tomorrow	آنے والا کل	Ghadan/bukrah	غَدًا / بُكْرَةً
The day after tomorrow	آنے والا پر سوں	Ba'da bukrah	بَعْدَ بُكْرَةٍ
The day after tomorrow	پر سوں	Ba'da ghad	بَعْدَ غَدٍ
Year	سال	Sanah / sanawaath	سَنَةٌ ج سَنَوَاتٌ
Morning	صبح	Subh/ sabaah	صَبْحٌ / صَبَاحٌ
Night	رات	Lail / layaal	لَيْلٌ ج لَيَالٍ
Day	دن	Yaum / ayyaam	يَوْمٌ ج أَيَّامٌ

سنة	السنه	السنه	السنه
SUN	MON	TUE	WED
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

THE MONTHS	مَينِ	Ash-shuhoor	الشُّهُورُ		THE MONTHS	الشُّهُورُ	
January	جنوری	Yanaayir	يَنَآيِرُ	1	Muharram	محرم	1
February	فبراير	Fabraaer	فَبْرَآيِرُ	2	Safar	صفر	2
March	مارچ	Maaris	مَارِش	3	Rabee-ul-Awwal	ربيع الأول	3
April	أبريل	Abreel	أَبْرِيْل	4	Rabee-ul-Aakhir	ربيع الآخر	4
May	مئی	Maayu	مَآيُو	5	Jumaadul Oola	جمادى الأولى	5
June	جون	Yuniyu	يُونِيُو	6	Jumaadul Ukhra	جمادى الآخرة	6
July	جولائی	Yuliyu	يُولِيُو	7	Rajjab	رجب	7
August	آگست	Aghustus	أَغْطُس	8	Sha'baan	شعبان	8
September	سبتمبر	Sabtambar	سَبْتَمْبَر	9	Ramzaan	رمضان	9
October	أكتوبر	Aktoobar	أَكْتُوبَر	10	Shawwaal	شوال	10
November	نومبر	Nufimbar	نُوفِمْبَر	11	Zul Qa'dah	ذو القعدة	11
December	ديسمبر	Disambar	دِيسَمْبَر	12	Zul Hajjah	ذو الحجة	12



Conversation

Arshad Basheer Madani Notes



المقابلة للوظيفة

Job Interview

انٹرویو برائے ملازمت

اردو السلام علیکم

عربی أَلْسَلَامُ عَلَیْكُمْ

English may peace be on you.

Roman Assalaamu alaikum

الْمُرْتَبِعُ

الْمُدْبِرُ

عربی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ

اردو وعلیکم السلام

Roman wa alaikumus salaam

English and may peace be on you too.

الْمُدْبِرُ

عربی اجلس من فضلك

اردو تشریف رکھیے

Roman Ijlis min fazlik

English Sit down, please

اردو شکریہ جناب

عربی شُكْرًا يَا سَيِّدِي

English Thank you

Roman Shukran yaa sayyidi

الْمُرْتَبِعُ

المقابلة للوظيفة

المُتَدَبِّر **عربي** مَا اسْمُكَ؟ **اردو** آپ کا نام کیا ہے؟ **English** What is your name?

Roman Masmuk? **English** What is your name?

المُرَشَّح **عربي** اِسْمِي عَلِيٌّ **اردو** میرا نام علی ہے **English** My name is Ali. **Roman** Ismi Ali

المُتَدَبِّر **عربي** كَمْ عُمْرُكَ؟ **اردو** آپ کی عمر کیا ہے؟ **English** What is your age?

Roman Kam umruk? **English** What is your age?

المُرَشَّح **عربي** عُمْرِي خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً **اردو** میری عمر پچیس سال ہے **English** I am twenty five years old. **Roman** Umri khamsun wa ishroona sanah

المُتَدَبِّر **عربي** مَا هِيَ مِهْنَتُكَ؟ **اردو** آپ کا پیشہ کیا ہے؟ **English** What is your profession?

Roman Maa hiya mihnatak? **English** What is your profession?

المُرَشَّح **عربي** اَنَا مُهَنْدِسٌ / طَبِيبٌ / مِيكَانِيكِيٌّ **اردو** میں انجینئر ہوں / ڈاکٹر ہوں / میکانک ہوں **English** I am an engineer/ a doctor/ a Mechanic **Roman** Ana muhandis/ tabeeb/ mikaniki

المُتَدَبِّر **عربي** مَا هِيَ مُؤَهَّلَاتُكَ الْعِلْمِيَّةُ؟ **اردو** آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ **English** What are your educational qualifications?

Roman Maa hiya mu'ahhilaatukal ilmiyyah? **English** What are your educational qualifications?

المُرَشَّح **عربي** اَنَا حَائِزٌ عَلَى شَهَادَةِ الْمَاجِسْتِيرِ **اردو** میں نے ایم۔ اے کیا ہے۔ **English** I have the degree of M.A **Roman** Ana haaez ala shahadatil maajisteer

المُتَدَبِّر **عربي** مِنْ أَيْنَ تَخَرَّجْتَ؟ **اردو** آپ نے کہاں سے فراغت حاصل کی ہے؟ **English** From where did you graduate?

Roman Min aina takharrajta? **English** From where did you graduate?

المُرَشَّح **عربي** تَخَرَّجْتُ مِنْ جَامِعَةِ لَكْنَاؤَ **اردو** میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے **English** I have graduated from lucknow university. **Roman** Takharrajtu min jaami'ati laknaao

المقابلة للوظيفة

<p>المُديِر</p> <p>عربي هل تستطيع أن تتكلم الإنجليزية؟</p> <p>Roman Hal tastateeo an tatakallamal injiliziyyah?</p>	<p>اردو</p> <p>English Can you speak English?</p>	<p>کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں؟</p>
<p>المُرشِح</p> <p>عربي نَعَمْ يَا سَيِّدِي، أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ اللُّغَةَ الْإِنْجِلِيزِيَّةَ</p> <p>Roman Yes sir, I can speak English.</p>	<p>اردو</p> <p>English Na'am yaa sayyidi, astateeo an atakallamal lughatal injiliziyyah</p>	<p>جی ہاں جناب میں انگریزی بول سکتا ہوں</p>
<p>المُديِر</p> <p>عربي خَيْرَةُ كَمْ سَنَةٍ عِنْدَكَ؟</p> <p>Roman Khibratu kam sanah indak?</p>	<p>اردو</p> <p>English How many years of experience do you have?</p>	<p>آپ کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے؟</p>
<p>المُرشِح</p> <p>عربي عِنْدِي خَيْرَةُ خَمْسِ سَنَوَاتٍ</p> <p>Roman Sir, I have the experience of five years.</p>	<p>اردو</p> <p>English Indi khibratu khamasi sanawaat</p>	<p>میرے پاس پانچ سال کا تجربہ ہے</p>
<p>المُديِر</p> <p>عربي هَلْ جِئْتَ بِشَهَادَاتِكَ؟</p> <p>Roman Hal ji'ta bishahaadaatik?</p>	<p>اردو</p> <p>English Did you bring your certificates?</p>	<p>کیا آپ اپنے سرٹیفکیٹ لائے ہیں</p>
<p>المُرشِح</p> <p>عربي نَعَمْ يَا سَيِّدِي!</p> <p>Roman yes sir.</p>	<p>اردو</p> <p>English Na'am yaa sayyidi</p>	<p>جی ہاں جناب!</p>
<p>المُديِر</p> <p>عربي أَيْنَ تَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؟</p> <p>Roman Aina ta'malu fi haazihil ayyaam?</p>	<p>اردو</p> <p>English Where are you working these days?</p>	<p>آج کل آپ کہاں کام کر رہے ہیں؟</p>
<p>المُرشِح</p> <p>عربي أَعْمَلُ لَدَى شَرِكَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَأَوْلَادِهِ</p> <p>Roman I am working in a firm called "Abdul Kareem & Sons"</p>	<p>اردو</p> <p>English A'malu lada sharikati Abdil Kareem wa aulaadih</p>	<p>میں عبد الکریم اینڈ سنز کے یہاں کام کر رہا ہوں</p>
<p>المُديِر</p> <p>عربي كَمْ رَاتِبًا تَتَقَاَصَى هُنَاكَ؟</p> <p>Roman Kam raatiban tataqaaza hunaak?</p>	<p>اردو</p> <p>English How much salary do you get there?</p>	<p>آپ وہاں کتنی تنخواہ پارہے ہیں؟</p>
<p>المُرشِح</p> <p>عربي أَتَقَاَصَى هُنَاكَ خَمْسَةَ أَلْفٍ رُوْبِيَّةٍ شَهْرِيًّا</p> <p>Roman I get there five thousand rupees monthly.</p>	<p>اردو</p> <p>English Ataqaaza hunaaka khamsata aalaaf rubiyyatan shahriyan</p>	<p>مجھے وہاں پانچ ہزار روپے ماہانہ مل رہے ہیں</p>

المقابلة للوظيفة

المُتَدَبِّر



عربي

مَتَى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَلْتَحِقَ بِالْعَمَلِ عِنْدَنَا؟

اردو

آپ ہمارے پاس کب سے کام شروع کر سکتے ہیں؟

Roman

Mata tastateeo an taltahiqa bil-amali indana?

English

When you can start the work here?

اردو ایک ماہ بعد

عربي بَعْدَ شَهْرٍ وَاحِدٍ

المُرْتَبِع



English After one month.

Roman Ba'da shahrin waahid

المُتَدَبِّر



عربي

هَلْ عِنْدَكَ جَوَازُ سَفَرٍ؟

اردو

کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟

Roman

Hal indaka jawaazu safar?

English

Do you have the passport?

اردو جی ہاں جناب موجود ہے

عربي نَعَمْ يَا سَيِّدِي مَوْجُودٌ

المُرْتَبِع



English Yes sir, I have it.

Roman Na'am yaa sayyidi maujood

المُتَدَبِّر



عربي

سَنُخْبِرُكَ فِي الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ،
وَالآنَ يُمَكِّنُ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ.

اردو

ہم آپ کو آئندہ ہفتہ اطلاع دیں گے، اب آپ جا سکتے ہیں

Roman

Sanukhbiruka fil usboo'il qaadim, wal-aan yumkinu laka an tazhab.

English

We will inform you the next week, now you can go.

اردو بہت بہت شکریہ جناب!

عربي شُكْرًا جَزِيلًا يَا سَيِّدِي.

المُرْتَبِع



English Thank you very much, sir.

Roman Shukran jazeelan ya sayyidi.

لِقَاءُ تِجَارِيٍّ

کاروباری ملاقات

Business Meeting



A Business Meeting

کاروباری ملاقات

لقاء تجاري

09



عربی السَّلَامُ عَلَیْكُمْ

Roman Assalaamu alaikum

اردو السلام علیکم

English May peace be on you.



عربی لَقَدْ حَضَرْتُ لِمُقَابَلَةِ الْمُدِيرِ.

Roman Laqad hazartu limuqaabalatil mudeer

اردو میں منیجر صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔

English I have come to meet the manager.

اردو کیا آپ کا ان کے ساتھ پہلے سے وقت طے ہے

عربی هَلْ لَكَ مَوْعِدٌ مُسَبِّقٌ مَعَهُ؟

Do you have an appointment with him?

English

Hal laka mau'idun musabbaqun ma'ahu?

Roman



عربی نَعَمْ لِي مَوْعِدٌ مَعَهُ وَقَدْ حَضَرْتُ مِنْ قِبَلِ
"عَدْنَانَ وَشُرَكَائِهِ"

Roman Na'am li mau'idun ma'ahu waqad
hazartu min qibali "Adnan wa
shurakaaihi"

اردو جی ہاں! میرا ان کے ساتھ وقت طے ہے اور میں عدنان اینڈ
کمپنی کی طرف سے آیا ہوں۔

English Yes, I have an appointment with him and
I am from Adnan & co.



عربی هَاهِي بِطَاقَتِي

Roman Haa hiya bitaaqati

اردو یہ رہا میرا کارڈ۔

English Here's my visiting card.

لِقَاءُ تِجَارِيٍّ

- یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرا استقبال کیا۔
- عربی: هَذَا لُطْفٌ مِنْكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَنِي.
- اردو: Haaza lutfun minka an tastaqbilani
- English: It's kind of you to welcome me.
- کیا میں آپ کو سامان کا کیٹلاگ، اس کی قیمتیں اور نمونے دکھا سکتا ہوں؟
- عربی: هَلْ تَسْمَحُ لِي أَنْ أُرِيكَ كِتَالُوجَ الْبِصَاعَةِ وَأَسْعَارَهَا وَعَيِّنَاتِهَا؟
- اردو: Hal tasmahu li an uriyaka kataloojal biza'ati wa as'aaraha wa ayyinaatiha?
- English: Will you allow to show you the catalogue, prize and the samples of the products,
- ہماری کمپنی بنے ہوئے کپڑے تیار کرتی ہے۔
- عربی: شَرِكُنَا تَصْنَعُ أَقْمِشَةً مَحْبُوكَةً.
- اردو: Sharikatunaa tas'nao aqmishatan mahmookatan
- English: Our company manufactures the knitting.
- ہمیں ایجنٹوں کی تلاش ہے
- عربی: نَحْنُ نَبْحَثُ عَنِ الْوُكَلَاءِ
- اردو: Nahnu nabhasu anil wukalaa'
- English: We are looking for agents
- ہماری ہول سیل (ٹھوک فروشی) اور ریٹیل قیمتیں اس فہرست میں درج ہیں۔
- عربی: أَسْعَارُنَا بِالْجُمْلَةِ وَبِالْمُفَرِّقِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَذِهِ الْقَائِمَةِ.
- اردو: As'aaruna bil jumlah wabil mufarriq maktoobatun fi haazihil qaa'emah.
- English: Our wholesale and retail prices are mentioned in this list.
- اگر آپ بڑی مقدار میں سامان خریدیں گے تو ہم آپ کو خصوصی چھوٹ دیں گے
- عربی: إِنَّا نَعْطِي خَصْمًا خَاصًّا إِذَا اشْتَرَيْتُمْ كَمِيَّاتٍ كَبِيرَةً مِنَ الْبِصَاعَةِ.
- اردو: Innana no'tee hasman khaassan izash-taraitum kamiyyaatin kabeeratan minal bizaa'ati
- English: We'll give you special discount if you buy our products in block.
- سامان کی ڈیلیوری آرڈر دینے کے ایک ماہ کے بعد ہوتی ہے۔
- عربی: تَسْلِيمُ الْبِصَاعَةِ يَتِمُّ بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ تَسْجِيلِ الطَّلَبِ.
- اردو: Tasleemul bizaa'ati yatimmu ba'da shahrin min tasjeelit talab
- English: Delivery of goods is done after a month of placing the order.

لِقَاءِ تِجَارِيٍّ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

اردو میں آپ کی مصنوعات دیکھنا چاہتا ہوں۔

عربی أُرِيدُ أَنْ أَرَى مُنْتَجَاتِكُمْ.

English I would like to see your products.

Roman Ureedu an ara muntajaatikum

اردو کیا آپ کے شہر میں کوئی شوروم ہے؟

عربی هَلْ عِنْدَكُمْ مَعْرَضٌ لِمُنْتَجَاتِكُمْ فِي الْمَدِينَةِ؟

English Do you have a showroom for your products in the city?

Roman Hal indakum ma'rizon limuntajaatikum fil Madinah?

اردو آپ کی شرائط کیا ہیں؟

عربی مَا هِيَ شُرُوطُكُمْ؟

English what are your conditions?

Roman Maa hiya shurootukum?

اردو کیا آپ اس ماڈل میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں؟

عربی هَلْ بِإِمْكَانِكُمْ إِجْرَاءُ تَغْدِيْلَاتٍ عَلَى هَذَا النُّمُوْدَجِ؟

English Can you make some alternations in this model?

Roman Hal bi'imkaanikum ijraao ta'deelaatin ala haazan numoozaj?

اردو کیا میں کچھ نمونے لے سکتا ہوں؟

عربی هَلْ يُمَكِّنُنِي أَنْ أَخْذَ بَعْضَ الْعَيِّنَاتِ؟

English Can I take some of the samples?

Roman Hal yumkinuni an aakhuza ba'zal ayyinaat?

اردو کیا آپ سامان کی پیکنگ کر سکتے ہیں؟

عربی هَلْ يُمَكِّنُكُمْ أَنْ تَهْتَمُّوْا بِتَعْيِيْنَةِ الْبِضَاعِ؟

English Can you arrange the packing of goods?

Roman Hal yumkinukum an tahtammoo bita'biatil bazaae'?

عربی لَا يُوجَدُ عِنْدَنَا طَلَبٌ كَبِيْرٌ لِهَذِهِ الْبِضَاعَةِ

اردو ہمارے یہاں اس سامان کی زیادہ نکاسی نہیں ہے۔

Roman Laa yujadu indana talabun kabeerun lihaazihil bizaa'ati

English There is not big demand for these goods.

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات

